

## 21254-مدیر سے شرماتے ہوئے صدقہ کیا

### سوال

کسی رفاہی کام کے لیے میں نے اپنے پاس سے ڈرتے ہوئے چنہ دیا، اگر مجھے مکمل اختیار ہوتا تو میں ایک دھیلا بھی چنہ نہ دیتا، تو کیا مجھے اس چنہ سے کی وجہ سے کوئی ثواب ہوگا؟ جیسے کہ میں اگر صدقہ دل سے چنہ دیتا، اگر ہوگا تو اس کی دلیل پیش کر دیں۔

### پسندیدہ جواب

اگر معاملہ ایسے ہی جیسے آپ نے ذکر کیا ہے تو آپ کو اپنے اس عمل پر اجر نہیں ملے گا؛ کیونکہ آپ نے یہ رقم دیتے ہوئے رضائے الہی کو مد نظر نہیں رکھا، آپ نے تو اپنے مدیر سے ڈرتے ہوئے چنہ دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ: (اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یقیناً ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔) اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب کے آغاز میں ابتدائے وحی کے باب میں ذکر کیا ہے، جبکہ امام مسلم نے: (1907) روایت کیا ہے۔